

2017 (A)

رول نمبر _____

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا
 (نیو سکیم)
 (2015-2017 سیشن)
 (NEW SCHEME)

TIME ALLOWED: 2.40 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.40 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 68

کل نمبر = 68

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوال پرچے میں درج ہے۔
 NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2 - کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write down names of four Non-essential Amino Acids. چار غیر ضروری امانو ترشوں کے نام لکھیں۔
 (ii) Write chemical composition of Carbohydrates. کاربوہائیڈریٹس کی کیمیائی ساخت بیان کریں۔
 (iii) Define Calorie. حرارہ کی تعریف کریں۔
 (iv) What is the identification of a Healthy Person? ایک صحت مند انسان کی کیا پہچان ہے؟
 (v) Describe four main functions of a Protein. پروٹین کے چار اہم کام بیان کریں۔
 (vi) Write important functions of Protein. اہمیت کے اہم کام بیان کریں۔
 (vii) Define Fats. روغنیات کی تعریف کریں۔
 (viii) Write the importance of Water. پانی کی اہمیت بیان کریں۔
 (ix) Write names of Poly Saccharides. کثیر شکر می شکروں کے نام لکھیں۔
 (x) How many food groups are there? غذا کے بنیادی گروہ کتنے ہیں؟
 (xi) Which points would you keep in mind while selecting food for patient? مریض کی غذا کے سلسلے میں کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟
 (xii) What are good sources of Iron? فولاد کے بہترین ذرائع کون سے ہیں؟

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3 - کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write functions of Vitamin "C" in the body. حیاتیاتین "ج" کے جسم میں کام بیان کریں۔
 (ii) Write any four principles of Menu Planning. فہرست طعام کے کوئی چار اصول تحریر کریں۔
 (iii) What is the importance of Iron in our body? ہمارے جسم میں فولاد کی کیا اہمیت ہے؟
 (iv) Write down the advantages of Fats. چکنائی کے فوائد بیان کریں۔
 (v) What are Natural Fibres? Write names. قدرتی ریشے کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔
 (vi) Which Food is called the basic food? بنیادی خوراک کون سی خوراک کہلاتی ہے؟
 (vii) Describe four main functions of Fats. روغنیات کے چار اہم افعال بیان کریں۔
 (viii) What is Goiter disease? گلپڑ کی بیماری کسے کہتے ہیں؟
 (ix) Write the method of Buffet System. بوفے کا طریقہ بیان کریں۔
 (x) Write main objectives of Cooking Food. خوراک پکانے کے اہم مقاصد لکھیں۔
 (xi) Which points would you keep in mind while purchasing meat? گوشت کی خریداری میں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟
 (xii) Write any two machine troubles and their solution. مشین میں ہونے والی کوئی سی دو خرابیاں اور ان کا حل لکھیں۔

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write procedure of taking care of Sewing Machine. (i) سلائی مشین کی حفاظت کا طریقہ لکھیں۔
- (ii) What is Grain Line? (ii) گرین لائن کسے کہتے ہیں؟
- (iii) Which principles should be of Good Fitting? (iii) اچھی فٹنگ کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہئے؟
- (iv) How will you take care of woollen clothes? (iv) اونٹنی پٹروں کی دیکھ بھال آپ کیسے کریں گے؟
- (v) What is a Linen Plant called? (v) لینن کے پودے کو کیا کہتے ہیں؟
- (vi) Which points would you keep in mind before stitching any cloth? (vi) کپڑے کو سلائی سے پہلے آپ کن باتوں کو مد نظر رکھیں گی؟
- (vii) What is meant by Self Grooming? (vii) ذاتی زیبائش سے کیا مراد ہے؟
- (viii) Write down method to get proficiency on machine. (viii) مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ لکھیں۔
- (ix) For which type of clothing is twill weave appropriate? (ix) ٹویل بنائی کن کپڑوں کے لیے مناسب ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Write down steps of making thread from cotton fibre. (5) سوئی ریشے سے دھاگا بنانے کے مراحل بیان کیجیے۔
6. Why food is cooked? (6) کھانا کیوں پکا جاتا ہے؟ کھانا پکانے کے مختلف طریقے تفصیل سے بیان کریں۔
Write different methods of cooking food in detail.
7. Write about silk fibre in detail. (7) ریشم کے ریشے کو تفصیل سے بیان کیجیے۔
8. What is meant by Food requirements? (8) غذائی ضروریات سے کیا مراد ہے؟ شیرخواری کے دور کی غذائی ضروریات بیان کیجیے۔
Write down food requirements of infancy period.
9. Write down main sources of Protein (9) پروٹین کے اہم ذرائع نیز اس کے کام اور کمی سے پیدا ہونے والے امراض تحریر کیجیے۔
and write its functions and deficiency diseases.

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا
 (نیو اسکیم) (2015-2017 سیشن)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا چین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پڑ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر ہرگز سوالات حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) If antibodies are not produced then:-
 (A) Anaemia occurs (B) Resistance power develops
 (C) Weakness occurs (D) Resistance power decreases
- (2) Wardrobe planning means:-
 (A) Types of clothes (B) Wardrobe
 (C) Selection of clothes with planning (D) Collect more clothes
- (3) Vitamin _____ works for the coagulation of blood.
 (A) E (B) C (C) K (D) B
- (4) _____ is unavoidable after water in wet cooking method.
 (A) Steam (B) Fire (C) Heat (D) Smoke
- (5) _____ is needed to make designs with Computer Machine.
 (A) Ripper (B) Thimble (C) Thread (D) Different Discs
- (6) An adult girl daily needs iron of:-
 (A) 12 mg (B) 15 mg (C) 25 mg (D) 20 mg
- (7) Chemical name of Vitamin C is:-
 (A) Ascorbic Acid (B) Folic Acid
 (C) Nicotinic Acid (D) Pantothenic Acid
- (8) While cutting the cloth diagonally its angle should be:-
 (A) 45° (B) 90° (C) 360° (D) 180°
- (9) Weakest fibre among all fibres is:-
 (A) Linen (B) Silk (C) Wool (D) Cotton
- (10) Deficiency of Niacin causes disease of:-
 (A) Pellagra (B) Scurvy (C) Osteomalacia (D) Xerophthalmia
- (11) The diet of patient should be:-
 (A) Over cooked (B) Balanced (C) Hard (D) Fatty or oily
- (12) _____ in blood balances Acidity and Basicity.
 (A) Calcium (B) Sulphur (C) Magnesium (D) Phosphorus
- (13) In order to compensate the deficiency of Carbohydrates it is essential:-
 (A) Minerals (B) Vitamins (C) Fats (D) Protein and fats components
- (14) Disaccharides are:-
 (A) Fructose (B) Glucose (C) Lactose (D) Galactose
- (15) _____ is attached to a sewing machine operated by feet.
 (A) Stand (B) Handle (C) Wood (D) Glass
- (16) _____ hours sleep is required to maintain health.
 (A) Four to six (B) Eight to ten (C) Six to eight (D) Ten to twelve
- (17) _____ have more proportion in the diet of children.
 (A) Vitamins (B) Fats (C) Minerals (D) Proteins

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

(OLD SCHEME)

(2012-2014 سیشن)

(اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 3.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 3.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 83

کل نمبر = 83

NOTE: - Write same question number and

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Food.

(i) غذا کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write down types of Fats.

(ii) چکنائیوں کی اقسام تحریر کیجیے۔

(iii) Make a chart of three Basic Food Groups.

(iii) غذا کے تین بنیادی گروہوں کا چارٹ تحریر کریں۔

(iv) What do you know about Retinol and Carotene?

(iv) ریٹینول اور کیروٹین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(v) Write down four main functions of Minerals.

(v) معدنی نمکیات کے چار اہم افعال تحریر کیجیے۔

(vi) Write chemical composition of Carbohydrates.

(vi) کاربوہائیڈریٹس کی ساخت بیان کیجیے۔

(vii) Write down the names of Polysaccharides.

(vii) کثیر شکر شکر کے نام تحریر کریں۔

(viii) What is the identification of a Healthy Person?

(viii) ایک صحت مند انسان کی کیا پہچان ہے؟

(ix) Write the important points of Purchasing Food.

(ix) خوراک کی خریداری کے اہم نکات تحریر کریں۔

(x) Write about the nutritious requirements of Infancy.

(x) شیر خوارگی کی غذائی ضروریات کے بارے میں لکھیں۔

(xi) What do you know by the process of Hydrogenation?

(xi) ہائیڈروجنیشن کا عمل کسے کہتے ہیں؟

(xii) Which are Water Soluble Vitamins?

(xii) پانی میں حل پذیر حیاتین کون سے ہیں؟

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write a short note on Goller.

(i) گلہڑ کی بیماری پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔

(ii) What is meant by Menu Planning?

(ii) فہرست طعام سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write down the method of Buffet System.

(iii) بوفے کا طریقہ بیان کیجیے۔

(iv) What are the main sources of Iron?

(iv) فولاد کے بہترین ذرائع بیان کیجیے۔

(v) What are the main functions of Minerals?

(v) معدنی نمکیات کے اہم افعال کون سے ہیں؟

(vi) How can you check the freshness of fruits and vegetables?

(vi) آپ پھلوں اور سبزیوں کی تازگی کیسے جان سکتے ہیں؟

(vii) What is the role of Calcium in our diet?

(vii) ہماری غذا میں کیلیم کا کیا کردار ہے؟

(viii) Write different methods of cooking food.

(viii) کھانا پکانے کے مختلف طریقے بیان کریں۔

(ix) Write the deficiency effect of Vitamin C.

(ix) حیاتین سی کی کمی کے اثرات بیان کیجیے۔

(x) Write down the principles of Buying Staple Food.

(x) اناجوں کی خریداری کے اصول تحریر کیجیے۔

(xi) How can you produce variety in food?

(xi) کھانے میں تنوع کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہے؟

(xii) Write down the main objectives of cooking food.

(xii) خوراک پکانے کے اہم مقاصد بیان کیجیے۔

(درج ذیل)

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Prepare the list of items of Sewing Box. (i) سلائی کے ڈبے کی اشیا کی لسٹ تیار کیجیے۔
- (ii) Write a note on Mercerization. (ii) مرسرائزیشن پر نوٹ تحریر کریں۔
- (iii) Write down the method to get proficiency on Machine. (iii) مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ لکھیں۔
- (iv) Write any test for Fibre identification. (iv) ریشوں کی شناخت کا کوئی سا طریقہ تحریر کریں۔
- (v) Which points should you consider for personal grooming? (v) ذاتی زیبائش کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
- (vi) Write down the names of Synthetic Fibre. (vi) کیمیائی ریشوں کے نام لکھیں۔
- (vii) What is Linen Plant called? (vii) لینن کے پودے کو کیا کہتے ہیں؟
- (viii) How do you do a wardrobe planning for Young Children? (viii) چھوٹے بچوں کے کپڑوں کی منصوبہ بندی آپ کیسے کرتی ہیں؟
- (ix) Write down the principles of Drafting. (ix) ڈرافٹنگ کے بنیادی اصول لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Which are essential Nutrients? (5) غذائی اجزاء کون کون سے ہیں؟ ان کے افعال اور غذائی ذرائع تحریر کیجیے۔
Write down their functions and feed sources.
6. Write down the structure, functions and deficiency effects of Protein. (6) لحمیات کی ساخت، افعال اور کمی کے اثرات تحریر کریں۔
7. What is Natural Fibre? (7) قدرتی ریشہ سے کیا مراد ہے؟ اونی ریشہ کے حاصل کر کے سے تیار کی تک کے مراحل بیان کیجیے۔
Write down the process of preparation of woollen fabric starting from fibre.
8. Write down different ways of serving food in detail. (8) کھانا پیش کرنے کے مختلف طریقے تفصیل سے بیان کیجیے۔
9. Write down the importance of Knowledge of Fibres. (9) ریشوں کے مطالعے کی اہمیت بیان کیجیے۔

SECTION-III حصہ سوم

10. NOTE: - Attempt any three parts.

15 = 5 x 3

(پرکینیکل حصہ) کوئی سے تین اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (A) Which points are to be considered while planning a menu for a family? (A) ایک خاندان کی فہرست طعام ترتیب دینے کے لیے کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟
- (B) Write different parts of a sewing machine and their functions. (B) سلائی مشین کے اہم پرزوں کے نام اور کام تحریر کریں۔
- (C) Write down the importance of taking correct measurement for good fitting. (C) اچھی فٹنگ کے لیے مناسب ناپ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔
- (D) Which points would you consider while planning your wardrobe? (D) اپنے لباس کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے آپ کن نکات کو مد نظر رکھیں گے؟
- (E) What is the most important point in purchasing food? (E) خوراک کی خریداری کرتے ہوئے سب سے اہم بات کیا ہے؟
نیز پھل اور سبزیاں خریدتے وقت آپ کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے؟
- (E) What is the most important point in purchasing food?
What points would you keep in consideration while purchasing vegetables and fruits?

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

(OLD SCHEME)

(2012-2014 سیشن)

(اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر یا کٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D.

The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Types of Vitamins are:- (1) وٹامن کی اقسام ہیں۔
 (A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) Eight آٹھ
- (2) Vitamin A found in vegetable sources is called:- (2) وٹامن اے کے نباتاتی ذرائع میں پائی جانے والی شکل کو کہتے ہیں۔
 (A) Carotene کیروٹین (B) Protein پروٹین (C) Tyrosine ٹائروسین (D) Systine سسٹین
- (3) Vitamin _____ is responsible for Blood clotting. (3) خون کے انجماد کے لیے وٹامن _____ ذمہ دار ہوتا ہے۔
 (A) A اے (B) C سی (C) D ڈی (D) B بی
- (4) Rickets and Osteomalacia disease is caused due to deficiency of Vitamin _____. (4) ریکٹس اور اوسٹیو ملیشیا کا مرض وٹامن _____ کی کمی سے ہوتا ہے۔
 (A) A اے (B) D ڈی (C) C سی (D) E ای
- (5) The diet of patient should be:- (5) مریض کی غذا ہونی چاہیے۔
 (A) Over cooked زیادہ پکی ہوئی (B) Very hard بہت سخت (C) Balanced متوازن (D) Oily چکنی روغنی
- (6) Goiter is caused due to deficiency of _____ mineral. (6) گلپڑی بیماری معدنی نمک _____ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
 (A) Calcium کیلسیم (B) Iron فولاد (C) Iodine آئوڈین (D) Phosphorus فاسفورس
- (7) _____ is a chemical name for Niacin. (7) نیاٹین کا کیمیائی نام ہے۔
 (A) Sulphuric acid سلفورک ایسڈ (B) Ascorbic acid اسکوربک ایسڈ (C) Acetic acid ایسٹک ایسڈ (D) Nicotinic acid نکوٹینک ایسڈ
- (8) Di-saccharides are:- (8) دو شکر کی مرکبات میں شامل ہیں۔
 (A) Glucose گلوکوز (B) Fructose فروکٹوز (C) Cellulose سیلولوز (D) Lactose لیکٹوز
- (9) _____ paper should be used for drafting. (9) ڈرافٹنگ بنانے کے لیے _____ رجب کا کاغذ استعمال کرنا چاہیے۔
 (A) Brown خاک (B) White سفید (C) Blue نیلا (D) Black کالا
- (10) Satin weave is suitable for _____ type of fabric. (10) ساتن بنائی _____ کے لیے ضروری ہے۔
 (A) Cotton clothes کتان کپڑوں (B) Synthetic fabric کیمیائی ریشموں سے بنے کپڑے (C) Wollen clothes اونی کپڑوں (D) Silky fabric ریشمی کپڑوں
- (11) Longest fibre is of:- (11) سب سے لمبا ریشہ ہوتا ہے۔
 (A) Cotton کتان (B) Linen لینن (C) Silk ریشم (D) Wool اون
- (12) The finishing process in which fabric is passed through a steamed roller is called:- (12) جس عمل میں کپڑے کو بھاپ دار رولر سے گزارا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔
 (A) Napping روئیں دار بنانا (B) Mercerization مرسرائزیشن (C) Bleaching بلیچنگ (D) Calendring کلینڈرنگ
- (13) If there is no oil in sewing machine then _____. (13) مشین میں تیل نہ ہو تو:-
 (A) Machine runs heavy مشین بھاری چلتی ہے (B) Needle breaks down سوئی ٹوٹ جاتی ہے (C) Upper thread breaks down اوپر کا دھاگا ٹوٹتا ہے (D) Lower thread breaks down نیچے کا دھاگا ٹوٹتا ہے
- (14) _____ is attached with sewing machine operated by feet. (14) پاؤں سے چلنے والی مشین کے ساتھ _____ لگتا ہے۔
 (A) Wood لکڑی (B) Handle ہتھی (C) Stand شینڈ (D) Glass شیشہ
- (15) _____ angle is required to cut the bias. (15) کپڑے کی ترجمان کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زاویہ ہو:-
 (A) 45° (B) 90° (C) 180° (D) 360°
- (16) Short, coarse and layer type fibre is of:- (16) چھوٹا، کھردرا اور تہ دار ریشہ ہوتا ہے۔
 (A) Cotton کتان (B) Silk ریشم (C) Wool اون (D) Rayon رے آن
- (17) Wardrobe planning means:- (17) کپڑوں کی منصوبہ بندی سے مراد ہے۔
 (A) Selection of clothes by planning منصوبہ بندی سے کپڑوں کا انتخاب (B) Types of clothing کپڑوں کی اقسام (C) Wardrobe of clothes کپڑوں کی الماری (D) Addition of too much clothes بہت زیادہ کپڑوں کو جمع کرنا

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,

MULTAN ✓

OBJECTIVE KEY FOR INTER (PART I/II) Annual Examination, 2017.

Name of Subject Outlines of Theme Session 2015-2017

Group: 1st New Scheme Economics Group: 2nd Old Scheme

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	4211	4211	4211	4211
1.	D			
2.	C			
3.	C			
4.	A			
5.	D			
6.	B			
7.	A			
8.	A			
9.	C			
10.	A			
11.	A			
12.	A			
13.	D			
14.	C			
15.	A			
16.	C			
17.	D			
18.	/			
19.	/			
20.	/			

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	8211			
1.	A			
2.	A			
3.	ABCD			
4.	B			
5.	A			
6.	C			
7.	D			
8.	D			
9.	A			
10.	D			
11.	C			
12.	D			
13.	A			
14.	C			
15.	A			
16.	C			
17.	A			
18.	/			
19.	/			
20.	/			

سرٹیفیکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ مارکنگ Key

ہم نے مضمون آؤٹ لائن آف پریچہ دو سمر گروپ تیم بنیو + اولڈ ایئر سالانہ امتحان 2017 کا سوالیہ پرچہ تیار کیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی (Subjective & Objective) کو نظر عمیق چیک کر لیا ہے یہ پرچہ سلیبس کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور سلیبس (Syllabus) کے مطابق بھی ہیں۔ نیز اس پرچہ کی Key کی بابت بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بھی درست بنائی گئی ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔

PREPARED & CHECKED BY

Sr.No Name Designation Institution Mobile No.

Signature Ainul Uddin

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 09-05-2017 مضمون: آڈیٹل این آف پریچ: دوسرا گروپ:

جزل ہدایات برائے مارکنگ Key اولڈ سکیم اینڈ سکیم (مارکنگ سکیم)

انٹرنیٹ ٹیسٹ اینڈ سالانہ امتحان 2017ء

Sr #	Code	Error Indicated	Sr #	Code	Error Indicated
1.	UN	Un-Necessary	8.	SP	Spelling Error
2.	Ir	Irrelevant	9.	P	Punctuation
3.	IN	Incomplete	10.	Wo	Wrong word error
4.	EX	Extra	11.	Wt	Wrong Tense
5.	Rp	Re-Produced	12.	Wf	Wrong Form
6.	I	Insufficient	13.	OA	Over Attempt
7.	Gr	Grammar Error			

اہم نوٹ: ہر سوال "Full Award" سے کم نمبر لگانے کی صورت میں وجہ ضرور لکھیں۔

Instructions for checking the Home Economics Papers.

1. Try to avoid marking in fractions. But if not possible then try to make it round figure in the next few questions.

2. Make a uniform policy for marking by setting the answers. So that no injustice be done to the students.

1. Aishah
2.
3.
09-05-17